



سنٹرل پنجاب نے سندھ کو 227 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں پہلی فتح حاصل کر لی

کراچی، 5 دسمبر 2020ء:

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے میچ میں سنٹرل پنجاب نے سندھ کو 227 رنز سے شکست دے دی، سندھ کی ٹیم کو 432 رنز کا ہدف ملا تھا، میچ کے چوتھے روز سندھ کی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز سے اننگز کا آغاز کیا تو سندھ کے سعد علی 31 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، شہزر محمد نے 50 رنز بنائے، جبکہ سندھ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں کھیل کے چوتھے روز 204 ہی بنا سکی۔ سنٹرل پنجاب کے وقاص مقصود نے تین اور حسن علی نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب نے اپنی پہلی اننگز میں 276 رنز بنائے تھے جبکہ سندھ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 92 رنز ہی بنا سکی تھی۔ سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے دوسری اننگز میں 247 رنز بنائے تھے اس طرح سنٹرل پنجاب کو سندھ کے خلاف 431 کی برتری حاصل ہو گئی تھی۔ سنٹرل پنجاب کے وقاص مقصود نے میچ میں 9 وکٹیں حاصل کیں جبکہ حسن علی نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اسٹیٹ بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے فرسٹ کلاس میچ میں خیبر پختونخواہ نے بلوچستان کو شکست دے دی، بلوچستان کو جیت کے لیے میچ کے آخری روز 400 رنز کا ہدف حاصل کرنا تھا تاہم اس کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 224 رنز پر ڈھیر ہو گئی، اویس ضیاء 43 اور علی وقاص 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ خیبر پختونخواہ کے باؤلرز ثمین گل اور محمد وسیم جونیئر نے تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، ساجد خان نے دو اور عرفان اللہ شاہ نے ایک وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل خیبر پختونخواہ نے اپنی پہلی اننگز میں 320 رنز بنائے تھے جو اب میں بلوچستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 120 رنز ہی بنا سکی تھی۔ اس سے قبل خیبر پختونخواہ کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 199 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ بلوچستان کے تاج ولی نے میچ میں سات وکٹیں حاصل کیں جبکہ خرم شہزاد نے چھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا،

خیبر پختوخواہ کے باؤلر ثمین گل اور محمد وسیم جونئیر نے چھ، چھ وکٹیں حاصل کیں۔ خیبر پختوخواہ کے کامران غلام نے پہلی اننگز میں 153 کی شاندار اننگز کھیلی تھی۔

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلے جانے والے میچ کے چوتھے روز ناردرن کو سدرن پنجاب کے خلاف میچ جیتنے کے لیے 200 رنز درکار تھے۔ ناردرن نے 41.5 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا۔ عمرا مین 65 اور حماد اعظم 53 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عمر امین نے پہلی اننگز میں 102 جبکہ حماد اعظم نے 91 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھیں۔ دوسری اننگز میں ناردرن کے ناصر نواز نے 68 رنز بنائے۔ سدرن پنجاب کی جانب سے عمر خان نے دو، زاہد محمود اور عامر یامین نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ میچ میں سدرن پنجاب نے پہلی اننگز میں 285 اور دوسری اننگز میں 295 رنز بنائے جبکہ ناردرن نے پہلی اننگز میں 381 رنز بنائے تھے۔

ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21:

- 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 first-class matches. For schedule, click [here](#)
- The event will be played under [Covid-19 protocols](#) at four venues in Karachi, namely National Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports Complex.
- Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab
- The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.
- The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect PKR5million
- PKR500,000 will be handed out to tournament's top-performers and the player of the final will get PKR50,000
- Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB's strategy and commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click [here](#) to read more

As part of the US\$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click [here](#), to read more about the three-year agreement

**HELP PREVENT
CORONAVIRUS**



National Team Partners

